



NOOR

International

IMANI GA AL'AMARIN DA BA A GANI BA A MUSULUNCI



noor.gallery



• Da sunan Allah Mai Rahama Mai Jin qai •

هُنَيَّأْتُهَا النَّاسُ أَتَقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُم مِّنْ نَفْسٍ
 وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً
 وَأَتَقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ
 عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ﴿١﴾

[سورة النساء: ١]

Ya ku mutane, ku kiyaye dokokin Ubangijinku
 Wanda Ya halicce ku daga rai guda xaya, kuma
 Ya halicci matarsa daga shi, kuma Ya yaxa
 maza da mata masu yawa daga gare su. Kuma
 ku kiyaye dokokin Allah Wanda kuke yi wa
 juna magiya da Shi, kuma ku kiyaye (yanke)
 zumunci. Lalle Allah Mai kula da ku ne

Alkur'ani (4:1)

AIKON DIN AIKI - TONA



هُنَيْأَتٌ إِلَيْهَا الْنَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُم مِّن ذَكَرٍ وَأُنثَىٰ
وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِيلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ
عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَانُكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ حَمِيرٌ
ۖ

[سورة الحجرات: ۱۳]

Ya ku mutane, lalle Mu Muka halicce ku
daga namiji da mace, Muka kuma sanya
ku al'ummu da qabilu don ku san juna.
Lalle mafi girmanku a wurin Allah shi
ne wanda ya fi ku taqawa. Lalle Allah
Masanin sarari ne, Masanin voye

Alkur'ani (49: 13)

AIKON DIN AIKI - TONA



لَهُوَ أَعْبُدُوا أَللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَنَا وَبِذِي الْقُرْبَى
وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ
بِالْجُنُبِ وَأَبْنِ الْسَّبِيلِ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ مَنْ كَانَ
مُخْتَالًا فَخُورًا ﴿٣٦﴾

[سورة النساء: ٣٦]

Kuma ku bauta wa Allah (Shi kaxai), kada
ku haxa Shi da komai; kuma ku kyautata
wa iyaye da dangi makusanta da marayu
da talakawa da maqwabci makusanci da
maqwabci na nesa, da abokin da ake tare
da kuma matafiyi da bayinku. Lalle Allah
ba Ya son duk wanda ya kasance mai
taqama, mai yawan fariya

Alkur'ani (4:36)

AIKON DIN AIKI - TONA



وَالَّذِينَ يَصْلُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ
أَن يُوصَلَ وَيَخْشُونَ رَبَّهُمْ
وَيَخَافُونَ سُوءَ الْحِسَابِ ﴿٢١﴾

[الرعد: ٢١]

Waxanda kuma suke sadar da
abin da Allah Ya yi umarni a
sadar da shi (na zumunci),
suke kuma tsoron
Ubangijinsu, kuma suke
tsoron mummunan hisabi

Alkur'ani (13: 21)

AIKON DIN AIKI - TONA



۝قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ
فَلَيَفْرَحُوا هُوَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ ﴿٥٨﴾

[يونس: ٥٨]

Ka ce: “Da falalar Allah da
rahamarsa, sai su yi farin ciki
da wannan; shi ya fi alheri
daga abin da suke tarawa
(na dukiya).”

Alkur'ani (10: 58)

AIKON DIN AIKI - TONA





لَهُو أَذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهُ
وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَقُولُوا
لِلنَّاسِ حُسْنَا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَعَاهُوا الزَّكُوَةَ ثُمَّ تَوَلَّتُمُ إِلَّا
قَلِيلًا مِنْكُمْ وَأَنْتُمْ مُعْرِضُونَ ﴿٨٣﴾

[البقرة: ٨٣]

Kuma ka tuna lokacin da Muka xauki alqwari
daga Banu Isra'ila cewa, ba za ku bauta wa kowa
ba sai Allah, kuma za ku kyautata wa iyaye da
makusanta da marayu da miskinai, kuma ku
riqa yi wa mutane kyakkyawar magana, kuma
ku tsai da salla, kuma ku ba da zakka, sannan
sai kuka ba da baya sai 'yan kaxan daga cikinku,
alhalin kuna masu bijirewa

Alkur'ani (2: 83)

AIKON DIN AIKI - TONA



وَقُلْ لِعِبَادِي يَقُولُوا أَلَّتِي هِيَ أَحْسَنُ
إِنَّ الشَّيْطَانَ يَنْزَعُ بَيْنَهُمْ إِنَّ الشَّيْطَانَ
كَانَ لِلْإِنْسَنِ عَدُوًّا مُّبِينًا

٥٣

[الإسراء: ٥٣]

Ka kuma ce da bayina su faxi
(magana) wadda ita ce ta fi kyau.
Lalle Shaixan yana vata
tsakaninsu. Lalle Shaixan ya
tabbata maqiyi ne mai bayyana
(qiyayya) ga mutum

Alkur'ani (17: 53)

AIKON DIN AIKI - TONA



وَلَيْسَ عَفِيفٌ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّىٰ يُغْنِيهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَالَّذِينَ يَبْتَغُونَ الْكِتَابَ مِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمُ فِيهِمْ خَيْرًا وَعَلَوْهُمْ مِنْ مَالِ اللَّهِ الَّذِي أَنْتُمْ كُمْ وَلَا تُكَرِّهُوْ فَتَيَّبِتِكُمْ عَلَى الْبِغَاءِ إِنْ أَرَدْنَ تَحْصُنَا لِتَبْتَغُوا عَرَضَ الْحَيَاةِ الْدُّنْيَا وَمَنْ يُكَرِّهُهُنَّ فَإِنَّ اللَّهَ مِنْ بَعْدِ إِكْرَاهِهِنَّ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿٣٣﴾

[النور: ٣٣]

Waxanda kuma ba su sami wadatar yin aure ba su kame kansu har Allah Ya wadata su daga falalarsa. Waxanda kuwa suke neman fansar kansu daga bayinku, sai ku ba su damar fansar kansu, idan kun san suna da halin iya biya; kuma ku ba su wani abu daga dukiyar Allah da Ya ba ku. Kada kuma ku tilasta wa kuyanginku ḛyan mata a kan yin zina idan sun nemi kame kai, don ku nemi amfanin rayuwar duniya. Wanda duk kuwa ya tilasta su, to lalle Allah Mai gafara ne, Mai jin qai bayan tilastawar da aka yi musu

Alkur'ani (24: 33)

AIKON DIN AIKI - TONA



هُنْقُلُ إِنَّ رَبِّي يَبْسُطُ الْرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ مِنْ
عِبَادِهِ وَيَقْدِرُ لَهُ وَمَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ شَيْءٍ
فَهُوَ يُخْلِفُهُ وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ ﴿٣٩﴾

[٣٩: سباء]

Ka ce: “Lalle Ubangijna Yana shimfixa arziki ga wanda ya ga dama cikin bayinsa, Yana kuma quntata masa. Kuma duk abin da kuka ciyar (don Allah), to Shi ne zai ba ku madadinsa, Shi ne kuwa Fiyayyen masu arzutawa.”

Alkur'ani (34: 39)

AIKON DIN AIKI - TONA



وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ ءَامَنُوا قَالُوا إِنَّا وَإِذَا خَلَوْا
 إِلَى شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ
 مُسْتَهْزِئُونَ ﴿١٤﴾ اللَّهُ يَسْتَهْزِئُ بِهِمْ وَيَمْدُدُهُمْ فِي
 طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ ﴿١٥﴾

[البقرة: ١٤-١٥]

Idan kuma suka haxu da waxanda suka yi imani sai su ce: “Mun yi imani.” To amma idan suka kevanta da shaixanunsu (iyayen gidansu) sai su ce: “Mu fa lalle muna nan tare da ku, mu kawai izgili ne muke yi.”

Allah Yana yi musu izgili, kuma Yana yi musu talala cikin shisshiginsu suna masu ximuwa

Alkur'ani (2:14-15)

AIKON DIN AIKI - TONA





هُنَّ كَيْفَ وَإِنْ يَظْهَرُوا عَلَيْكُمْ لَا يَرْقُبُوا
فِي كُمْ إِلَّا وَلَا ذِمَّةً يُرْضُونَكُم بِأَفْوَاهِهِمْ
وَتَأْبَى قُلُوبُهُمْ وَأَكْثَرُهُمْ فَاسِقُونَ ﴿٨﴾

[التوبة: ٨]

Ta yaya?! (haka zai faru) alhali idan suka yi nasara a kanku ba za su duba wani kusanci ba balle wani alqawari game da ku? Suna yardar da ku ne da bakunansu, alhali kuwa zukatansu suna qi. Yawancinsu kuma fasiqai ne

Alkur'ani (9: 8)

AIKON DIN AIKI - TONA



إِذَا جَاءَكَ الْمُنَافِقُونَ قَالُوا نَشَهَدُ إِنَّكَ
لَرَسُولُ اللَّهِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ إِنَّكَ لَرَسُولُهُ وَاللَّهُ
يَشْهَدُ إِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَكَذِبُونَ ﴿١﴾

[المنافقون: ١]

Idan munafukai suka zo maka sai
suka ce: “Muna shaidawa cewa lalle
kai Manzon Allah ne.” Allah kuma
Yana sane da cewa kai tabbas
Manzonsa ne, kuma Allah Yana
shaidawa cewa munafukai tabbas
qarya suke yi

Alkur'ani (63: 1)

AIKON DIN AIKI - TONA



هُوَ الَّمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ نَافَقُوا يَقُولُونَ لَا إِخْوَانُهُمُ الَّذِينَ
كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَئِنْ أُخْرِجْتُمْ لَنَخْرُجَنَّ
مَعَكُمْ وَلَا نُطِيعُ فِيْكُمْ أَحَدًا أَبَدًا وَإِنْ قُوْتُلُتُمْ
لَنَصْرَنَّكُمْ وَاللَّهُ يَشْهُدُ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ ﴿١١﴾

[الحشر: ١١]

Ba ka ga waxanda suka yi munafunci suna ce
wa ‘yan’uwansu waxanda suka kafirta daga
ma’abota littafi: “Tabbas idan aka fitar da
ku, lalle za mu fita tare da ku, ba kuma za mu
bi wani mutum game da ku ba har adaba,
kuma idan aka yaqe ku tabbas za mu taimake
ku.” Allah kuma Ya san tabbas qarya suke yi

Alkur'ani (59: 11)

AIKON DIN AIKI - TONA

